

# آپ ناروے میں ہنگامی حالات کی تیاری کا حصہ ہیں

خود ہنگامی حالات کی تیاری کرنے کے لیے مشورے



Direktoratet for  
samfunnssikkerhet  
og beredskap

# دنیا میں محفوظ ترین اور پھر بھی خطرے سے دوچار

ہم ایک محفوظ اور پائیدار معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہم اکثر چیزوں کو درست طریقے سے چلتا دیکھنے کے عادی ہیں۔ تاہم ناروے میں زندگی کا دارومندار مکمل طور پر بجلی، پانی اور انٹرنیٹ جیسی سہولیات پر ہے۔ اور یہی ہمیں خطرے سے دوچار کرنے والی سب سے بڑی کمزوری ہے۔

مثال کے طور پر خراب موسم، قدرتی آفات، سبوٹاڑ، یونینیکل مسائل، دبشت گردی یا جنگ کی وجہ سے بہت سے لوگ بجلی یا پانی سے محروم ہو سکتے ہیں اور اشیائی ضرورت کا ملنا زیادہ مشکل ہو سکتا ہے۔

جب معاشرے کو کسی بڑی آفت یا مصیبت کا سامنا ہوتا ہے تو بہت سے لوگوں کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر ہم میں سے زیادہ لوگ کسی آفت میں اپنا اور اپنے گرد دوسروں کا خیال رکھ سکتے ہوں تو ان لوگوں کو مدد مہیا کی جا سکتی ہے جنہیں سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ اس طرح سے آپ ناروے میں بنگامی حالات کی تیاری کا حصہ ہیں۔

یہ وجہ یہ ہے کہ ہم ناروے میں برگھر کے افراد کو بنگامی حالات کی بہتر تیاری کے لیے کچھ آسان اقدامات کرنے کو کہتے ہیں۔ اس بروشور میں ہم ان بنیادی چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں جن پر آپ کو سوچنا چاہیے اور آپ ٹھوس مثالوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی آفت انے پر آپ کیسے کم از کم تین دن تک گزارا کر سکتے ہیں۔

پر آپ کو مزید معلومات  
[sikkerhverdag.no/en/prepare](http://sikkerhverdag.no/en/prepare)  
دا بروشور خوندی و ساتی۔ ملیں گی کہ آپ مصیبتوں اور آفات کے لیے کیسے بہتر تیاری کر سکتے ہیں۔

## ان ضروری چیزوں کی مثالیں جو تیار رکھنی چاہئیں:

### آپ کو کن چیز ون گی ضرورت ہے؟

یہ فہرست ایک مثال مہیا کرتی ہے کہ کم از کم تین دن گزارا کرنے کے لیے گھر میں کیا موجود ہونا چاہیے۔ سوچیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں، وہاں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔

- فی کس ۹ لٹر پانی
- فی کس ۲ پیکٹ کریکر بریڈ
- فی کس ۱ پیکٹ دلیا
- تیار کھانے کے ۳ ٹن فی کس یا خشک خوراک کے
- فی کس ۳ پیکٹ
- ڈبل روٹی پر لگانے کی تا دیر قابل استعمال چیزوں کے ۳ دلیے فی کس
- خشک پھلوں یا ننس، بسکٹ اور چاکلیٹ کے کچھ پیکٹ
- ضروری دوائیاں
- حرارت کے لیے جلانے کی لکڑی، گیس بیٹر یا پیرافین بیٹر
- بار بی کیو یا گیس کا چولہا
- موم بتیاں، بیٹری والی ٹارج یا پیرافین لیمپ (لالثین)
- ماچس یا لائٹر
- گرم کپڑے، کمبل اور سلیپنگ بیگ
- ابتدائی طبی مدد کا سامان
- بیٹری والا DAB ریڈیو
- بیٹریاں، چارج کیا ہوا بیٹری بینک اور گاڑی کے لیے موبائل فون چارجر
- صفائی کے واپس اور جراہیم کش محلول
- کاغذی تولیے، ٹائلٹ پیپر
- کچھ نقد رقم
- اضافی ایندھن اور جلانے کی لکڑی/گیس/پیرافین
- حرارت اور کھانا پکانے کے لیے میتھیلیٹ سپرٹ یعنی rodsprit
- نیوکلئیر حادثات کی صورت میں آئیوڈین کی گولیاں

## خوراک

گھر میں اتنی خوراک بونی چاہیے جو سب کے لیے کافی ہو۔ یہ سوچیں کہ اگر بھلی یا پانی نہ آئے تو آپ کیسے کھانا تیار کریں گے۔ اگر آپ کا کوئی پالتو جانور ہے یا گھر میں کسی کی خاص غذائی ضروریات بیس تو آپ کو اس لحاظ سے بندوبست کرنا ہو گا۔ کافی خوراک یقینی بنانے کے لیے یہاں کچھ تجویز دی جا رہی ہیں:

- دھیان رکھیں کہ آپ عام طور پر جو خوراک خریدتے اور کھاتے ہیں، وہ آپ کے پاس کچھ زائد دنوں کے لیے ہو۔ روزانہ سودا خریدنے کی بجائی آپ ایک بار میں زیادہ دن کے لیے خریداری کر سکتے ہیں۔
- زیادہ دیر قابل استعمال رہنے والی خوراک کچھ زیادہ خرید لیں جس سے کمرٹ کے درجہ حرارت پر رکھا جا سکتا ہو اور گرم کیے بغیر کھایا جا سکتا ہو۔
- اس کی اچھی مثالیں کریکر بریڈ، ڈبل روٹی پر لگانے کی چیزیں اور ٹن بند کھانے، انرجی بارز، خشک پہل اور ننس ہیں۔ سوپ اور سیر پر لے جانے کی خشک خوراک دیر تک قابل استعمال رہنے والی خوراک کی اچھی مثالیں ہیں لیکن ان کی تیاری کے لیے اکثر حرارت کی ضرورت ہوتی ہے۔

## حرارت اور روشنی

بہت سے گھروں میں حرارت کا اہم ترین یا واحد ذریعہ بھلی ہے۔ بھلی بند ہونے کی صورت کی تیاری کے لیے آپ کو کچھ امکانات پر غور کرنا چاہیے:

- لکڑی جلانے والا بیٹر یا آتشدان - دھیان رکھیں کہ یہ درست کام کرتا ہو اور آپ کے پاس کافی لکڑی ہو گیس یا پیرافین کا بیٹر۔ چیک کریں کہ یہ درست حالت میں ہے اور عمارت کے اندر استعمال کے لیے ہے، بدایات برائے استعمال پر عمل کریں اور بوا کی اچھی آمدورفت یقینی بنائیں
- گرم کپڑے، کمبل اور سلیپنگ بیگز
- ماچس یا لائٹر
- بمسایوں، رشتہ داروں یا دوستوں سے بات کر لیں کہ وہ آپ کو پناہ دیں گے
- بیڈ ٹارچ یا جیبی ٹارچ - بیٹریاں یاد رکھیں



## پانی

پینے اور کھانا بنانے کے لیے آپ کو فی دن فی کس کم از کم ۳ لٹر صاف پانی کی ضرورت ہو گی پانی کو اندھیری اور ٹھنڈی جگہ پر محفوظ رکھنا بہتر یہ جہاں براہ راست دھوپ نہ پڑتی ہو۔ اگر آپ پانی کے کنٹینرز اچھی طرح صاف کر لیں تو ان میں سالہ سال پانی رکھا جا سکتا ہے اور یہ پینے کے لیے محفوظ ہوتا ہے۔ کافی پانی یقینی بنانے کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں

- بوتلون یا کنٹینرز کو صاف کریں، انہیں نل کے ٹھنڈے پانی سے پورا بھر لیں اور ڈھکن لگا دیں
- دکان سے پانی کی بوتیں یا کنٹینرز خرید لیں
- پانی کی ضرورت کو کسی حد تک جوں، سو فٹ ڈرنکس اور دوسرے الکھل سے پاک مشروبات سے
- پورا کریں

## پانی محفوظ کرنے کا طریقہ:

- بوتلون/کنٹینرز کو صابن اور پانی سے دھوئیں اور کھنگالیں۔
- ۱ لٹر پانی میں ۲ ڈھکن کے حساب سے گھریلو کلورین ملاتیں۔ اسے کم از کم ۳ منٹ پڑا رینے دیں۔
- یہ پانی پھینک دیں اور بوتلون/کنٹینرز کو اچھی طرح کھنگال لیں۔
- بوتلون/کنٹینرز کو نل کے ٹھنڈے، بہتے ہوئے پانی سے پورا بھر لیں۔
- پانی کو اندھیری اور ٹھنڈی جگہ پر رکھیں۔

آپ کو مزید معلومات

[sikkerhverdag.no/en/prepare](http://sikkerhverdag.no/en/prepare)

پر ملیں گے۔



## دوائیاں اور ابتدائی طبی امداد

سب لوگوں کو بنیادی ابتدائی طبی امداد دینے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ چاہے آپ بالکل ناتجربہ کار بون یا آپ کو اپنی معلومات تازہ کرنے کی ضرورت ہو، اس کے لیے کئی کورس اور تربیت کے انتظامات موجود ہیں۔

اگر آپ کو دوائیوں یا طبی امدادی سامان کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو زائد دوائیاں یا سامان ذخیرہ کرنے کے لیے اپنے ڈاکٹر یا کیمسٹ سے بات کرنی چاہیے۔ اپنی دوائیوں کی قابل استعمال رینے کی تاریخ دیکھیں اور جن کی تاریخ ختم ہو رہی ہو، ان کی جگہ اور دوائیاں حاصل کریں۔ آپ کے پاس گھر میں یہ ہونا چاہیے:

- ابتدائی طبی امداد کا سٹینڈرڈ سامان
- درد کم کرنے والی دوائیاں
- نیوکلئیر حادثات کے لیے آئیودین کی گولیاں



## حفظان صحت

گرم پانی کے بغیر، یا بدترین صورت میں پانی بالکل نہ ہونے پر، ذاتی حفظان صحت اور خوراک اور کھانا تیار کرنے کے لیے صفائی کے بارے میں سوچنا اہم ہے۔ صفائی کی کمی سے انفیکشن اور بیماریاں پنپتی ہیں۔

- جہاں تک ممکن ہو، اپنا بدن اور باٹھ روزانہ دھوئیں، خاص طور پر ٹائلٹ سے فراغت کے بعد اور کھانا بنانے سے پہلے۔
- آپ کے پاس صفائی کے وائپس اور باٹھوں کے لیے اینٹی بیکٹیریل ڈس انفیکٹنٹ ہونا چاہیے۔
- اپنے گھر کو باترتیب اور صاف رکھیں۔
- اگر ٹائلٹ کا کمود استعمال نہ کیا جا سکتا ہو تو آپ کے لیے متبادل انتظامات کر رکھنا ضروری ہے۔

### تجاویز!

آپ کو

sikkerhverdag.no/  
egenberedskap

پر مزید معلومات ملیں گی - جن میں یہ تجاویز بھی شامل ہیں کہ پانی بند ہونے کی صورت میں آپ ایمرجننس ٹائلٹ کیسے بنा سکتے ہیں۔

## معلومات

مصیبتوں اور حادثات کی صورت میں یہ ایم یے کہ آپ کو سرکاری ذرائع سے معلومات مل رہی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ جب عوام کو فوری خطرے سے خبردار کیا جانا ہو تو خبردار کرنے کے نظام (ٹوفان کی آمد یا باؤائی حملے کے سائز) استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب سائز بجنا شروع ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلومات حاصل کرنی ہوں گی۔

NRK P1 ناروے کا ایم جنسی معلومات کا ریڈیو چینل ہے جو ملک کے سب لوگوں کو معلومات کی فراہمی یقینی بنائے گا، تب بھی جب خبروں کے دوسرا میڈیا اور سرکاری ویب سائیٹس دستیاب نہ ہوں۔ یہاں کچھ تجاویز دی جا رہی ہیں جن سے آپ کو اس معلومات ملنے یقینی ہو سکتا ہے:

- بیٹری سے چلنے والا DAB ریڈیو رکھیں۔
- بیٹریوں کا اضافی سیٹ رکھیں۔
- اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ گاڑی کو ریڈیو سننے اور موبائل فون چارج کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔

### یاد رکھیں!

اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کو معروف اور معتبر ذرائع سے معلومات مل رہی ہیں۔ مصیبتوں میں اکثر حالات غیر واضح ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے مفادات کی خاطر غلط معلومات پھیلا سکتے ہیں۔



آپ کے پاس کیا کچھ ہے اور آپ کو کیا علم ہے

بنگامی حالات کی اچھی  
تیاری صرف یہی نہیں ہے  
کہ آپ نے الماری میں کیا  
رکھا ہوا ہے بلکہ یہ بھی ہے  
کہ آپ کے ذہن میں کیا  
کچھ ہے۔

یہ سوچیں کہ آپ جہاں رہتے ہیں، وہاں کیا  
ہو سکتا ہے، آپ اور آپ کے قریبی لوگوں پر کیا  
آفت آسکتی ہے اور آپ لوگ مل کر اسے کیسے  
سنپھال سکتے ہیں۔ پتہ کریں کہ کیا کسی کو  
مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے اور  
آپ کیسے مدد کر سکتے ہیں۔

یہ یقینی بنائیں کہ آپ بنگامی صورتحال میں  
جو آلات استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں،  
وہ درست کام کرتے ہیں اور آپ کو ان کے  
استعمال کا طریقہ معلوم ہے۔ بنیادی ابتدائی  
طبی امداد دینے کا طریقہ سیکھیں اور پتہ  
کریں کہ کسی مصیبت میں آپ کی بلدیہ آپ  
کو کیسے معلومات دے گی۔



## Sikkerhverdag.no

sikkerhverdag.no پر آپ کو خود بِنگامی حالات کی تیاری اور گھر میں حادثات کی روک تہام کے لیے DSB کی طرف سے مشورہ اور تجویز ملیں گی۔

## اِم فون نمبر

**110**

فائر اینڈ ریسکیو

**112**

پولیس

**113**

ایمرجنس طبی مدد

**117 116**

ایمرجنس کلینک

اپنی ریائشی بلدیہ کی ویب سائیٹ دیکھ کر مقامی حالات کے متعلق مزید تفصیل پڑھیں۔



## ذاتی نوٹس:

یہاں آپ اپنے فون نمبر، پتے یا اپنے گھر کے لوگوں کے لیے دیکھ مفید معلومات لکھ سکتے ہیں۔



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  
Gauta Gjol Dahie